

# فەزىلەتە كانى

## مانگى رەمەزان

### وولەندىڭ لەھوگەمە كانى

#### ماھۇستى ئابدۇللىھى

- ۵ . شەھەيتانە كان و جنۆكە سەرگەشەكانى تىدا زنجىر پىچ دەكرىن و دەبەستىنە وە لە خراپكردى بىر و باو و پرو پەوشتى رۆژو و انان .
- ۶ . كارى چاكەكردى تىدا سوک و ئاسان دەبىت .
- ۷ . خراپەكارى تىدا بىزراو و نارەحەت دەبىت .
- ۸ . بەرۆژو و بونى بەئىمانە وە و چاوپى پاداشتە وە دەبىتە ھۆى لىخۆش بونى گوناھى رابردو .
- (من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ماتقدم من ذنبه)<sup>(۱)</sup> (ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)<sup>(۲)</sup>

#### فەزىلە كانى مانگى رەمەزان

- گەورەبى و بەرەكەتى رەمەزان لە و خالانەى خوارە وە دەردەكە وىت : مانگىكە :
- ۱ . شەوى (ليلة القدر) تىدايە كە خىرى لە ھەزار مانگ زىاترە ﴿ليلة القدر خير من ألف شهر﴾ القدر .
- ۲ . قورئانى تىدا ھا تۆتە خوارە وە كە ھىدايە تەدرى مرقە بۆ ھەموو خىرو چاكە يەك و بەختە وەرى بەردە وامى وە رى رۆشنىكە رە وە يانە ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان﴾ البقرة .
- ۳ . ھەموو دەرگاكانى دۆزەخى تىدا دادە خرىن .
- ۴ . وە گشت دەرگاكانى بەھەشتى تىدا دەكرىنە وە .

(۱) متفق عليه

(۲) صحيح مسلم

لهم کاته دا پیغه مبه ر (ﷺ) فه رمووی :  
 ((نایا که سی سی یه م سالیك نه مایه وه  
 دواي دوو شه هیده که ، وه له م ساله دا  
 نه گه یشته مانگی په مه زان و به پۆژوو  
 نه بوو ، وه نه وه موو نوپژ و کړنوشه ی  
 بۆ خوا نه برد له و ساله دا ، که واته ماوه ی  
 نیوان ئەم دوو که سه وه کو ماوه ی نیوان  
 ئاسمان و زهوی یه ، واته پله و شوینی  
 دووهمیان به رزتره ! ))<sup>(۱)</sup>.

که واته براوخوشکی موسولمان ئەم  
 هه موو خپرو به ره که ته له ده ست خۆت  
 مه ده که له مانگه پیروژه دا هه یه  
 و خۆتی لئ مه حروم مه که ، ئەگینا  
 له هه موو خپریک مه حروم ده بیت.  
 له به ره وه هه ول بده ئەم عیباده ته  
 پیروژانه ی خواره وه ی تیدا بکه ی ت:

### یه که م :

### به رۆژوو بونی مانگه که به ته واوی

چونکه پۆژوو گرتن به گشتی و پۆژوی  
 مانگی په مه زان به تاییه تی فه زل و خپرو  
 پاداش تیکی زور زوری هه یه وه  
 له مه ودوا درده که ویت .

### فه زله کانی رۆژوو گرتن

۱- لیخۆش بوونی گونا ه (من صام  
 رمضان ایمانا واحتساباً غفر له ما تقدم من  
 ذنبه).

۹. وه هه روه ها شه ونویژه کانی ش  
 (ته راویح) وه ک رۆژه که په شکه ره وه ی  
 گونا هه کانی . (من قام رمضان ایمانا  
 واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)<sup>(۳)</sup>

۱۰. دوعاو پارانه وه ی تیدا قه بول  
 ده بیت. (وأن لكل مسلم دعوة يدعو بها  
 فيستجاب له)<sup>(۴)</sup>

۱۱. وه له هه موو شه وو پۆژیکدا  
 خه لکانیک ئازاد ده کړین له دۆزه خ و  
 بریاری نه چوو نه ناودۆزه خیسان  
 بۆ ده دریت.

(إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ،  
 صفدت الشياطين ومردة الجن، وغلقت  
 أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتح  
 أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي  
 مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر  
 أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل  
 ليلة)<sup>(۵)</sup>.

وه به لگه ی گه وره یی ئەم مانگه ش  
 له م فه رمووده یه دا درده که وئ که باسی  
 دوو که سه که ده کات کاتیک که یه کیکیان  
 شه هید ده بی ، له پاشان ئەوی تریان  
 ده مریت له دواي ئەو له سه ر جیگه که ی ،  
 وه له خه ودا ده بینری که پیش  
 شه هیده که که وتۆته وه بۆ به هه شت ،

(۳) متفق علیه

(۴) أحمد والبخاري: صحيح.

(۵) الترمذي ۶۸۲ حديث حسن.

(۶) أحمد: ۱۴۰۳، ۸۳۸۱، ۸۳۸۰. وصحيح الترغيب ۳۶۸.

۲- پاداشتىكى بى چىساب و بى ژمار لە ھەدىسىدا ھاتوو ھەمانا ھەي ئە ھەيە : ھەموو كەردە ھە چا ھەكانى مەروۇ پاداشتى چەند جارەي بۆ ھەيە و چا ھەيەك بە (دە) چا ھە دەنوسرەيت تا (۷۰۰) قات پەروەردگار فەرموويەتى تەنھا پۆژوو نەبەيت (واتە پۆژوو لە ھەسەت چا ھە زياترەيش بى چىساب پاداشتەيتەي) ھە پۆژوو بۆمنە من خۆم پاداشتەيتى پۆژوو دە دەمە ھە ھە چونكە پۆژوو ھە وان ھە ھەيئەت لە خواردن ۋە پاباردنى لە بە رخاترى من) (۷)

۳- تامو بۆنى دەمى پۆژوو ھە وان خۆشترە لە بۆنى ميسك ھەك لە ھەدىسىدا ھاتو (۸)

۴- پۆژوو قەلغانى خاوەنەكەيەتى و لە ئاگرى دۆزەخ دە پياريزەيت . (الصيام جنه يستجن بها العبد من النار) (۹)

۵- پۆژوو لە گەل قورئان خويندن شەفاعەت دەكەن بۆ خاوەنەكانيان لە پۆژوى دوايى . پۆژوو دەلەيت : ئەي پەروەردگار من خواردن و پاباردنم قەدەغە كەردبوو لەم پۆژوو ھە وانە بۆيە بەمنى بېخەشە و بەرتكاي منى بھە . ھە قورئان دەفەرموويت : من خەوم لى منع

كەردبوو بەشەوو دەي بەر شەفاعەتى منى بھە (۱۰)

۶- پۆژوو دەرگايەكى تايبەتى بۆ دانراو ھە بە ھەشتا پىي دەوتەري (الريان) و پۆژوو ھە وانەكان لە پۆژوى قيامەتدا پيايدا دەچنە ناو ھە ھە ، ھە كە ئەوان چو ھە ناو ھە دادەخرەيت و پىگا بەكەسى تر نادەيت پيايدا بچەيتە ناو بە ھەشت ھە ھەركەسيكەيش پيايدا چوو ھە ژورە ھە خواردنە ھە ھەك دەخواتە ھە كە تينويىتى دەشكەيئەت ۋەقت تينوى نادەيتە ھە (۱۱)

**دوو ھەم : شەو نويز (قيام الليل = صلاە التراويح)**

واتە ئەو يانزە پەكەتەي كە زياتر شەوانى پەمەزان بە جەماعەت لە مزگەوتەكان دەكرەيت زۆر زۆر خيەركى گەورەي ھەيە و پىغەمبەر (ﷺ) فەرموويەتى : ( من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) (۱۲) . واتە ھەركەسيك ئەو يانزە پەكەتەي شەوانى پەمەزان بكات بە بىرو باو ھە پىكى تەواو و چا ھە پىي پاداشتە ھە ، ئەوا خوا لە گوناھەكانى پابردووي خۆش دەبەيت . ھە دروسەت نىيە لە شەوئىنى تەپاويحەكان نويزە چوو ھەكانت

(۱۰) (أحمد: ۶۶۲۶ وسنده حسن).

(۱۱) (متفق عليه، و ابن خزيمة).

(۱۲) خ: ۳۷، م: ۷۵۹.

(۷) صحيح مسلم.

(۸) (متفق عليه).

(۹) أحمد: ۲۴۱/۳ صحيح.

بگیریته وه، چونکه هیچ به لگه یه کی راستی له سه ر نی یه . به لگو فه رموده ی سه حیج له سه ر نه وه یه که سووننه ته کان که لین و که م و کورتی فه رزه کان یان پی پرده کریته وه له ره ژوی لیپرسینه وه ی دواییدا . وه قیاسی نوژییش ناکریته سه ر ره ژوو چونکه دوو عیباده تی لیک جیاو سه ره خوون و جیاوازی هه یه له نیوانیاند، هه ره وه که ده بینین ئافره ت که به هوی حه یزه وه نوژیو ره ژوی نه کردوه ، ته نها ره ژوه کانی ده گیریته وه نه که نوژیه کانیشی ! . وه سووننه ته به جه ماعت ته راویحه که ت بکه یت، چونکه پیغه مبه ر (ﷺ) فه رموویه تی : ( إن الرجل اذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة<sup>(۱۳)</sup> . واته نه گه ر مرؤف له گه ل ئیمام به جه ماعت نوژیه کانی شه وی کرد تا ته واو ده بییت نه وه نوژی ته واوی شه وه که ی بو حیساب ده کریت .

وه ده شه وی نه خیری ممانگ به تاییه تیش تاکه کانی زور خیره که زور به گه رمی و چالاکیه وه عیباده تی خوا ی تیدا بکریت و نوژیه کان ته واوتر و دریژتر بکرین و به خشوع و له خوا ترسانه وه نه نجام بدرین و قورئانیان زور تیدا بخویندرین و زیکر و دعای زوریان تیدا

بکرین ، چونکه پیغه مبه ری خوا (ﷺ) له وه ده شه وه دا دور ده که ته وه له خه و و خیزان ، وه ماله وه ی هه لده ستاند بو عیباده ت و به دریژی شه وه که نوژی ده کرد چونکه له م ده شه وه دا شه وی که شه وه کان شه وی قه دره ( ليلة القدر ) که خیری زیاتره له هه زار مانگ و هه ر که سیک له وه شه وه دا نوژیه کان بکات به ئیمان و چاوه ری پاداشته وه ، نه وه خوا له گوناه ی رابردوو (داهاتوی) خوش ده بییت إن شاء الله . وه که له حه دیسدا هاتوو ( من قام ليلة القدر [ثم وفقت له] إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر<sup>(۱۴)</sup> .

به لام سووننه ته ده شه وه که به نوژی و زیکری سووننه تی و دعوا پارانه وه خوا و قورئان خویندن ببریته سه ر، نه که به ئله نگ گیران و کور به ستن و وتار له دوا وتار و په ندی پیشینان و ده فه لیدان و سرود وتن و دعای جه ماعی و ئایا ده زانی ۰۰۰ !!؟، چونکه به تاییه ت له م ده شه وانده دا پیچه وانده ی سووننه تی (سه له ف) ه . پیغه مبه ری خوا (ﷺ) له م ده شه وه دا یانزه رکات نوژی ده کرد له دوا ی عیشا وه تا وه کو پیش نوژی به یانی زور به له سه رخوی و ئارامی

(۱۳) صحیح سنن الترمذی . و صحیح سنن ابن ماجه : ۱۰۹۲ .

(۱۴) (متفق علیه ، والزیاده لأحمد)

دریژ تیایدا به ترس و خشوعه وه و ، به  
 ئومیدی پاداشته وه نهك به کوپ و ووتار  
 و زیکر و دعای به دهنگی بهرز و  
 جهماعی یه وه :

﴿ أمن هوقانت آنا اللیل ساجدا وقائما یحذر  
 الاخرة ویرجو رحمة ربه ﴾ وه ﴿ والذین یتوبون لربهم  
 سجدا وقیاما ﴾ .

وه پیویسته وریا بین له سیفاتی  
 مونافیقان که کاتیک هه لدهستن بو نویژ  
 زور ته مبهل و بی ئاره زوون و زیگری  
 خوای که م تیدا نه کهن :

(واذا قاموا إلى الصلاة قاموا کسالی براؤون الناس  
 ولا یذکرون الله إلا قلیلا) .

وه پیویسته خویمان پابهینین  
 وورده وورده نویژه کانمان وه کو پیشینه  
 چاکه کانمان ( السلف الصالح ) بکهین  
 نه که وه کو مونافیقه کان .

**سیتهم : زور قورئان خویندن به هوش و**

**بیرلی کردنه وه و خشوع و له خوا ترسان**

وه ههول بده زور قورئان بخوینیت  
 له و مانگه دا هه موو کاتیک به تاییه تیش  
 شه وانه چونکه قورئانی پیروز  
 دابه زینه که ی له شه ودا بووه که شهوی  
 قدر ( لیلۃ القدر ) ه ، وه هه روه ها  
 پیغه مبه ر ( ﷺ ) هه موو شه ویک دیراسه ی  
 قورئانی ده کرد له گه ل جبریل له شه وانی  
 رهمه زاندا . که واته شه وانت به قورئان

وته و او یه وه . وه له نویژه که یدا زور  
 پاده وه سستا و قورئانی زوری تیدا  
 ده خویند و له سه ره موو ئایه تیک  
 ده وه سستا و له ئایه تی په حمه ت دعای  
 ده کرد و له ئایه تی باسی غه زه بیش  
 په نای به خوا ده گرت و له رکوع و سجود  
 زور ده مایه وه به تاییه تی له سوجه دا  
 به نه ندازه ی ئه وه ی که په نجا ئایه ت  
 ده خویند ریته وه ، وه زیگری تیدا ده کردن  
 و دعای زوری ده کرد له سجود و زور  
 داوای عه فوی ده کرد و ده یوت :

(اللهم إنک عفوٌ تحب العفو فاعف عني)  
 وه هاوه لانیشی ﷺ که پیشینه و  
 پیشه وای ئیمه ن ته نها خه ریکی ئه و  
 یانزه ره که ته ده بوون تا وه کو پیش  
 به یانی وه کو ئیمام مالک بویمان  
 ده گتیرته وه :

(أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب  
 وقيما الداري أن یقوما للناس بإحدى عشر  
 رکعة، وقد كان القاريء یقرأ بالمئين ،  
 حتی کنا نعتمد علی العصي من طول  
 القيام، وما کنا ننصرف إلا فی بزوغ  
 الفجر) (۱۵) .

وه قورئان وه سفی به نده  
 خوا په رسته کانمان بو ده کات به شه و  
 نویژ و پاوه ستانی زور و سجود و رکوعی

پوژ هه لڊی ، له پاشان دوو په کعته نوژی بکات ، نه وه وهک خیری حج و عومره یه کی ته واوی هه یه . وه هه روه ها دوا نوژی عه سر و پیش مه غریب :

﴿ یا ایها اللذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة وأصيلا ﴾ ﴿ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ﴾ .

دوعا کردن کاتی به ربانگ و سنیه کی کوتایی شه و به تاییه ت ( لیلۃ القدر ) و نیوان بانگ و قامه ت و سه عاتی نه خیری پوژی جومعه و له سوچه دا و دواوی نوژه کانیش پیش سه لام دانه وه .

### پینجه م : خیر و چاکه

( مال و خواردن به خشین )

پیغه مبه ری خوا (ﷺ): ( كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل - فيدارسه القرآن )<sup>(۱۶)</sup> .

واته پیغه مبه ری خوا (ﷺ) له هه موو که س به خشنده تر بوو، وه له په مه زاندا له هه موو کاتیک زیاتر به خشنده بوو، وه داوای هر شتیکی لی کرابا دهیبه خشی له پیناوی خوا ، به فقیر و هه ژاران و به و که سانه ش که دلی گوش ده کردن بوئیسلام .

وه خوئی به ژیانیکی که م و که فاف پازی ده بوو و زیاد له وهی دهیبه خشی .

(۱۶) متفق علیه .

خویندن و لی وورد بوونه وه و دیراسه کردنی ببه سهر ، وه نه خوینده واران با گوئی له قورئان خوینده کان یا شریته کانیاں بگرن . وه قورئانی پیروژ هاو هل له گهل پوژوودا، شه فاعه تت بو ده که ن، پوژوو ده لیت : ئه ی په روه رنکار به روژ من بوومه پیگری نه و موسولمانه له خواردن و خواردنه وه دهی بو خاتری من له و بهنده یه خوش به ، وه قورئانیش ده فهرموویت : منیش شه وانه خه وم لی هه لگرتبوو دهی بمکه به شه فاعه ت کاری و به منی ببه خشه .

وه قورئان خویندن پاداشتی زوری هه یه که له بهر خاتری خوا به ته نها بخویندریت وه نه کریتته وه سیله یه ک بو پاره په یدا کردن و شوهره ت وه ده ست هیئان !! وه گرنگیش نه وه یه موسولمانی تیگه یشتوو کار به قورئان بکات و شوینی بکه ویت نه که ته نها خویندنه وهی ، چونکه پیغه مبه ر (ﷺ) فه رموویه تی ( أكثر منافی أمي قراؤها ) واته زوریه ی مونا فیه کانی ئوممه تی من قورئان خوینده کانن - په نا به خوا - له و سیفه ته خراپه .

### چواره م : زیکر و دوعا

پیغه مبه ر (ﷺ) فه رموویه تی : هر که سی نوژی به یانی به جه ماعه ت بکات له پاشان دانیشی زیکری خوا بکات تا

صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء (۱۷).

واتە ھەر کەسێک بە ریانگ بدات بە پۆژووەوانێک ئەو بە ئەندازەی پۆژووەوانە کە ئەجری ھەیە، بێ ئەوەی لە ئەجری پۆژووەوانە کەش کەم بێتەو ۰

### شەشەم :

#### تەقوا کردنی خواو خو پارێزی

لە نەھیهکانی و تورپیی و سزا و دۆزەخە کە ی بە گوێرایەلی کردنی فەرمانەکانی و زۆر زیکر و یاد کردنی و بەردەوام ھەست کردن بە چاودێری و مورپاقەبە ی خوا ۰

وہ لە راستیدا تەقوا کردنی خوا و خو پراھینان لە سەر مورپاقەبە ی خوا ، گەورەترین حیکمەت و ئامانجەکانی پۆژوو گرتنە . وہ کە سەیری سەرەتا و کۆتایی ئایەتەکانی پۆژوو بکەین دەبینین ھانی داوین بۆ تەقوا کردن ﴿ لعلکم تتقون ﴾ ﴿ لعلہم یتقون ﴾ واتە : پەرورەدگار پۆژووی لە سەر واجب کروون و حوکمەکانیشی بۆ پوون کردوونەوہ بە لکو بە تەقوا بن و خو پارێزین لە خراپە و تاوان ۰ مەبەست لە پۆژوو گرتن ئەوہیە موسلمان دل و زمان ولا شە ی خو ی پەرورەدە بکات و پای بەینیت

وہ بە عیلم و ئامۆژگاری و مال و سامان و نەفس لە خزمەت موسولماناندا بوو و ، بە ھەموو شیوہیە ک بەخشندە بوو لە گەلیاندا و لە بەرامبە ریشدا داوای ھیچ پاداشتیکی لە خەلک نە دە کرد ﴿ قل لا أسئلكم علیہ من أجر ﴾ ، وہ با ئیمەش لە بەر خاتری خوا و شوین کەوتن بۆ پیغەمبەرانی خوا بەخشندە بین بەم شیوہیە :

۱- خیر و صدەقە کردن بە فقیر و ھەژاران و ئی قەوماوان ، چونکە خیر و صدەقە بە خالسی بۆ خوا گوناھو تاوان دەکوژینیتەوہ ۰

۲- خواردن بەخشین بە جیران و خزم و میوان و ھەتیوو ھەژار و کەسانی برسی لە بەر خوا ، کە ئەوہش دەبیتە ھۆی چوونە بە ھەشت و پزگار بوون لە ئاگر و سزای دۆزەخ ، وە ک پەرورەدگار دەفەر موویت :

﴿ ويطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتمیما وأسیرا ، إنما نطعمکم لوجه اللہ لانزید منکم جزاء ولا شکورا ، إنا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطیرا ، فوقاهم اللہ شر ذلك الیوم ولقاهم نصرۃ وسرورا ، وجزاهم بما صبروا جنة وحریرا ﴾ .

۳- بە ریانگ بەخشین بە پۆژووەوان : پیغەمبەر ﴿﴾ فەر موویە تی : ( من فطر

(۱۷) الترمذی: ۸۰۴. و صححه وهو کما قال.

له سه ر گوئی پرایه لی و ملکه چی بو خوا ، وه له بهر خاتری خوا له کاتی پۆژوو دا واز بهیخت له وه ئاره زوانه ی که له بنه په تدا بو ی حه لآن، وه ک خواردن و خوارنده وه و جیماعی خیزانی خو ی، که وابوو چاکتر و زیاتر پیویسته له پیئاوی په روه ردگار واز بهیخت و دوور که ویته وه له وه ئاره زوانه ی تریش که له بنه په تدا و له هه موو کاتی که هه ر حه رام و قه ده غه کراون ، وه ک درۆ و بو هتان و دوورمانی و غه بیته و ئاژاوه نانه وه و نه زه ر و گو ی گرتن له موسیقا و گۆرانی و دانیشتن به رام بهر ته له فزیون و سه ته لایت بو بینینی بهرنامه و فلیمی پروت و بی شه رع ی .

وه پیغه مبه ری خوا ﴿﴾ فه رموویه تی :  
 ۱- ( من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی أن یدع طعامه و شرابه )<sup>۱۸</sup> .  
 واته هه ر که سیك واز نه هیخت له قسه ی درۆ ناحه ق و کرده وه ی خراپه و نا په وا ئه وا خوای گه وره ه یچ پیویستیه کی به وه نیه که واز له خواردن و خوارنده وه ی بهیخت و پۆژوه که ی خیری نیه .

۲- ( رب صائم حظه من صیامه الجوع والعطش )<sup>(۱۹)</sup> .

واته : پۆژوه وانی وا هه یه به شی له پۆژوه که ی ته نها برسیتی و تینویتی یه (واته ه یچ خیری نیه چونکه دل و زمان و لاشه ی نه پاراستوو له گونا هو خراپه و ئازاردانی موسولمانان ) وه به و مه رجه په مه زان ده بیته مایه ی په ش بوونه وه ی گونا هه کانت که خو ت دوور بگریت له گونا هه گه وره کان :

( و رمضان إلى رمضان مکفرات لما بینهنّ ، ما اجتنبت الكبائر ) .  
 ۳- ( لیس الصیام من الأکل والشراب إنما الصیام من اللغو والرفث فإن سابک أحد أو جهل علیک فقل إني صائم إني صائم )<sup>(۲۰)</sup> .

واته : پۆژوو گرتن ته نها خو گرتنه وه نیه له خواردن و خوارنده وه ، به لکو خو گرتنه وه یه له قسه ی پر و پوچ درۆ و جنیو و ناحه ق ، له بهر ئه وه ئه گه ر یه کی که جنیوی پی دایت یان نه فامیتی به رام بهر ت نواند ئه وه تو بلای من به پۆژوو من به پۆژوو .

\*\*\*\*\*

(۱۹) الدارمی ۲/۲۱۱/صحیح

(۲۰) صحیح . ابن خزیمه : ۱۹۹۶ و الحاکم : ۱/۴۳۰ .

(۱۸) البخاری .



**جہونہم :****تہوبہ و داوای لی خوش بوون کردن**

﴿ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله هو الغفور  
الرحيم ﴾

وہ بہ تائبہت لہ کاتی سحور :

﴿ وبالأسحاحم يستغفرون ﴾

موسولمانی کہ متہ رخہم : گہر لہم مانگہ تہوبہ نہ کہیت کہ لہ ہہ موو شہوو پوژیکدا خہ لکانیک نازاد دہ کرین لہ دوڑہخ و برپاری نہ چوونہ ناو دوڑہخیان بو دہدریت، کہی تہوبہ دہ کہیت؟! دہی تا ئہوکاتہ پیروڑہی دوعا قہبول بوون و خوا لی خوش بوونت بہ دہستہوہ ماوہ لہ پہمہ زاندا بہ زووترین کات بگہر پوہ لای پہرہردگارت و داوای لی خوش بوونی لی بکہہ و بہرہاستی ببپہرہستہ و شووین قورئان و نیردراوہ کہی بکہوہ ۰ و ہہرکہ سیک بہ زمان داوای لی خوش بوون بکات ، بہ لام دلہ کہی ہوگری تاوان بیٹ و نیازی گہر پانہوہی ہہ بیٹ - دوا پہمہزان - بو سہرپیچپہ کانی پیش پہمہزان " تہوہ پوژوو گرتنہ کہی بی فایدہیہ و توبہ کہیشی گالتہیہ ۰

کہواتہ نیہت و ئیرادہت پتہ و بکہ لہسہر خوا پہرہستی بہ بہرہوامی و ئیستیقامہتت بی چونکہ عاقیبہت حیسابہ و تاخیر خیری گرنگہ ۰

وہ سوپاسی خوا بکہ لہسہر تہوہی کہ لہ و مانگہ دا زیاتر ہیدایہتی داویت و دہرگای دوڑہخی بو داخستویت و دہرگاکانی بہہشتی بو کردویتہوہ ، کہواتہ چون جاریکی تر دوا پہمہزان تہم فہزلہ لہ دہست خوت دہدہیت و پشت لہ مزگہوت و خواپہرہستی دہکہیتہوہ و پوو دہکہیتہوہ خراپہ و پیسہکات دہکہیتہوہ خوری ﴿ کالٹی قشت غوطسا من بعد قسوة انکاشا ﴾ و بہرہو ئاگر دہرپویت!! . موسولمانی ژیر پیویستہ خوا بہرہستیت تا مردنت ﴿ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ﴾ چونکہ تہوہی لہ پہمہزاندا دہپہرہستیت بہ رویشتنی پہمہزان ناروات ۰ و ہہرہوہا لہ خوبایی مہبہ بہو چہند پوژ عیبادہتہی پہمہزانت بہ لکو مہترسی تہوہت بیٹ لیت و ہرنہگریٹ ، چونکہ پہرہردگار تہنہا عیبادہتی تہقواداران قہبول دہکات ﴿ إنما يتقبل الله من المستمين ﴾ و ہہترسی تہوہت ہہ بیٹ بہ تہوہی تہنجامت نہ دابن و پوژی قیامہت پوو زہردی لای خوا بی .

﴿ الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلية أنهم إلى ربهم راجعون ﴾ .

\*\*\*\*\*



بہ لَام غہیری ئہ مانہ پیویستہ  
بہ پۆژووبن و چاوه ری پاداشتیش بن لای  
خوا لہ سہری .

کہ واتہ بۆمان دہرکہوت کہ یہ کتیک لہ  
پہ حمہ تہ کانی خوای گہورہ بریتی یہ لہ  
ٹایینی ئیسلام ، کہ ٹایینیکئی ئاسانہ و  
قورسی تیدا نیہ ، چونکہ خوای گہورہ  
داوای لہ ہیچ کہ سیئک نہ کردووہ کہ لہ  
توانایدا نہ بیت .

خوای گہورہ دہ فہرموویت :

﴿ وما جعل علیکم فی الدین من حرج ﴾ (۲۶)

وہ ہر وہا دہ فہرموویت :

﴿ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ﴾ (۲۷)

لہ بہر ئہ وہ خوای گہورہ ریگہی بہ  
پۆژوو نہ بوون داوہ .

وہ ہر کہ سیئک پۆژو نہ گریئت بہ ہوی  
عوزریک وہک ( حہیز و نیفاس و  
نہ خووشی و سہفر ) وہ تہ مہلی بکات  
لہ گیرانہ وہی - قہزا کردنہ وہی -  
پۆژوہ کہ ہتا ئہ وکاتہی کہ مانگی  
پہمہ زانی دووہم دیت بہ بی عوزر ئہ وہ  
پیویستہ لہ سہری بہ پہ لہ بگہ ریئتہ وہ بۆ  
تہویہ کردن و داوای لیبوردن کردن لہ  
خوای گہورہ چونکہ ئہ و پۆژوانہی  
لہ سہری بوونہ داوای خسنتون ،

بونوی زہرہ ری دا لہ مندالہ کہی ئہ وہ  
بۆیان ہہیہ ئہ وانیش تہ نہا فیدیہ بدہن ،  
بہ گویرہی تیگہ یشتنی زانای ئوممہت  
ابن عباس لہ ٹایہ تی ﴿ و علی الذین یطیقونہ فدیہ طعام  
مسکین ﴾ (۲۳) . بہ لَام ہندی لہ زانایان  
فہرمووینانہ بہ لی بۆیان ہہیہ بہ پۆژوو  
نہ بن ، بہ لَام پیویستہ پۆژوہ کہ یان  
بگیرنہ وہ و ہکو نہ خووش و موسافیر ،  
چونکہ حالیان لہ وان نارہحہت تر نی یہ ،  
وہ کہ ابن عباس تہ نہا باسی فیدیہی  
کردووہ مہ بہستی ئہ وہ نہ بووہ کہ  
گیرانہ وہ یان لہ سہر نی یہ (۲۴) .

۶،۷ . موسافرو نہ خووش بۆیان ہہیہ  
بہ پۆژو نہ بن وہ داوایی پۆژوہ کانیان  
بگرنہ وہ لہ چہند پۆژیکئی تردا ، وہ کو  
دہ فہرموویت :

﴿ فمن کان منکم مریضاً أو علی سفر فعدۃ من ایام  
آخر ﴾ (۲۵)

ئہ مہش بریتی یہ لہ لابردنی ناخووشی و  
نارہحہتی کہ توشی نہ خووش و موسافیر  
دہ بیت

(۲۳) قال ابن عباس : وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة،  
إذا كانا لا يطيقان الصوم ، والحلبى والمرضع إذا خافتا أظرتا  
وأطعمتا كل يوم مسكينا . رواه أبو داود: ۲۳۱۸ .  
والبيهقي: ۲۳۰/۴ . بسند صحيح .

(۲۴) شيخ ابن عثيمين ثقم رایة هی هة لذار دووة (الشرح  
المتنع: ۳۶۲/۶) .

(۲۵) (البقرة / ۱۸۴) .

(۲۶) (سورة المؤمنون / ۷۸)

(۲۷) (سورة البقرة / ۱۸۵)

وہ پیویستہ پڑوہ کہش ہر بگریتہ وہ بہ بی کہ فارہت و فیدیہ إن شاء اللہ.

بہ لام ئە گەر ہاتوو دواخستنی پڑوہ کانی بہ ہوی عوزریکہ وہ بوو وەک بہ ردہ وام بوونی سہ فہرہ کہی بیان نہ خوشیہ کہی ئە وہ تاوانی لە سہر نیہ و تہ نہا گرتنہ وہی پڑوہ کانی لە سہرہ ئە گەر دواي مانگی رەمە زانی دووہ مییش بییت.

### ( ترسانکی وازہینان لە پڑوو )

ئە وکە سە ی بزانییت کہ پڑوو واجبہ و پوکزیکی ئیسلامہ و ئینکاری بکات ئە وہ کافرہ .

\* بہ لام کہ سیک ئیمانی ہہ بییت بہ وہی کہ واجبہ پڑوو بگریت، بہ لام بی عوزری شہرعی، بہ ویستی خوی وان لە پڑوو گرتن بہینیت لە مانگی رەمە زان ئە وہ گونہاھیکی گہورہی کردوہ پوکزیکی دینہ کہی لە پوخاندایہ و مہ ترسی زوری لی دە کریت. لە حہ دیسیکدا ہاتووہ کہ ئە مہ ماناکہ یہ تی: پیغہ مہر ﷺ فہ رموی ( لە کاتیکدا کہ من نوستبوم دوو پیاو ہاتنہ لام قولیان گرتم وھینایانم بو شاخیک و وتیان سہرکہ وہ وتم : من ناتوانم وتیان: بۆت ئاسان دە کہین. جا سہرکہ وتم تا کہ گہ یشتم بہرہ شایی شاخہ کہ گویم لە دەنگیکی بہرز بوو وتم: ئە وہ دەنگانہ چین . وتیان ئە وانہ دەنگی

ہاواروشیوہنی ئە ہلی ئاگرن ! . لە پاشان بردیانم تا گہ یشتم بہ کۆمہ لہ خہ لکیک ہہ لواسرابون بہرہ گی سہر پاژنہ پییان . دە میان دابردابوو کہ لین کہ لین کرابوو و خوین لە دە میانہ وہ دەہات . وتم ئە مانہ کین ؟ ووتیان ئە وانہ کہ پیش کاتی پڑوو شکاندن ( واتہ پیش پڑو ئاوابون) پڑوو دە شکینن<sup>(۲۸)</sup>.

ئە مہ سزای کہ سیک بییت پیش پڑوو ئاوابون پڑووی بشکینن ئە بی حالی ئە و کہ سہ چۆن بییت کہ ہر بہ پڑوو نہ بییت؟! .

ئە بو ہورہ یرہ ﷺ فہ رموی: پیغہ مہری خوا (ﷺ) سہرکہ وتہ سہر مینبہ رو فہ رموی: (( آمین آمین آمین )) وتیان : ئە ی پیغہ مہری خوا تو کہ سہر کہ وتیہ سہر مینبہر وتت آمین آمین آمین؟ فہ رموی: جبرائیل سہ لامی لە سہر بییت ہاتہ لام وتی : ہہرکہ سی بگاتہ مانگی رەمە زان و خوا لی خۆش نہ بییت و بییتہ شایستہ ی دۆزہ خ ئە وہ خوا دوری خاتہ وہ لەرہ حمہ تی خوی )) بلی: ( آمین ) منیش وتم ( آمین ) ...<sup>(۲۹)</sup>.



(۲۸) (النسائي في الكبرى والحاكم: ۱/۴۳۰) صحيح.

(۲۹) (ابن خزيمة ۳/۱۹۲. وأحمد: ۲/۲۴۶ صحيح).

## ﴿ روکنہ کانی پوژوو گرتن ﴾

۱- نیہت بوون : پیویستہ پیش کاتی بانگی بهیانی ئه و پوژوہ نیہت دابمہ زرینیت له سہر به پوژوو بوون . واتہ له ہر به شیکی شہودا به مرجیک بانگی بهیانی نہ بوو بیت له دلدا نیہتی به پوژوو بوون دہینیت . وهك له حدیسدا ہاتووہ : (من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له) (۳۰).

واتہ ہر کہ سیک پیش کاتی بهیانی نیہتی به پوژوو بوون نہ ہینیت پوژوو گرتنی بوئیہ ، به لام ئہم روکنہ تایبہتہ به پوژووی ( واجب ) نہک سوننہت .

## ۲- خوگرتنہ وہ ( الإمساك )

له ہموو ئہو شتانہی کہ پوژوو یان پی بہتال دہبیتہ وہ (المفطرات) له کاتی بانگی بهیانیہ وہ تا کاتی پوژو ئاوابوون .

## ( کاتی پوژوو گرتن )

خوای گہورہ فہرموویہتی :

﴿ أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثَ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لَبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لَبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ (البقرة: ۱۸۷)

واتہ بوٹان ہہیہ بچنہ لای خیزانتان و ئہوہی خوا بوئی حہلال کردون بیکہن، وہ بخوون وبخونہ وہ تاوہ کو پووناکئی و سپیایی بهیانی [الخيط الأبيض من الفجر] دہردہ کہ ویت و تاریکایی شہو (الخيط الأسود من الليل) نامینیت کہ ئہمہ سہرہ تایی به پوژوو بوونہ . وہ بہردہ وام بن له سہر ئہم خوگرتنہ وہیہ له : چونہ لای خیزان و خواردن و خواردنہ وہ، وہ بہ پوژوو بن تا خوور ئاوا دہبیت و پوژو دہروات و شہو دیت .

﴿ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ .

## چہند تیبینی یہک :

۱- سہرہ تایی پوژوو گرتن لہ دہرکہ وتنی ئہو پووناکییہ دہبیت کہ پیی دہوتریت (الفجر الصادق) کہ بریتی له پووناکییہ کی پہنگ سور و بلاوو و پەرش بوہوہ بہ سہر لوتکہ شاخ و دہورو بہردا، وہ بہوہ نوئیژی بهیانی دہبیت و خواردن و خواردنہ وہ له پوژوہ وان حہرام دہبیت . چونکہ لہو کاتہ وہ پوژوو گرتنہ کہ دہست پییدہ کات . به لام پیش ئہم بهیانیہ راستہ (الفجر الصادق) پووناکییہ کی سپی بہرز دہبیتہ وہ له پوژوہ لاتہ وہ بہرہ و ئاسمان و ہک عہمودیک . وہ ئہوہ پیی دہوتریت بهیانی درؤ (الفجر الکاذب) . وہ نہ نوئیژ بووہ

(۳۰) أبو داود: ۲۴۵۴ . صحیح الجامع الصغیر .

له وکاتهدا وهنه رږوښ د هسټ پښده کات .  
وهک له حدیسدا هاتوه :

﴿ کلوا واشربوا ولا یغرنکم الصاطع  
المصعد ، وکلوا واشربوا حتی یعترض لکم  
الأحمر ﴾ (۳۱) .

۲- ﴿ إذا سمع أحدکم النداء والإناء فی  
یده فلا یضعه حتی یقضي حاجته ﴾ (۳۲) .  
واته : نه گره یه کیک له ئیوه گوئی  
له بانگی به یانی بوو وه جامه ئاویشی  
به دهسته وه بوو، با دای نه نیته وه  
تاوه کو لی ده خواته وه به گویره ی  
پیویستی خوی .

که واته به به لگه ی نایه تی :

﴿ أحل لکم لیلۃ الصیام الرفیق الی نساءکم هن  
لباس لکم وأنتم لباس لهن علم الله انکم کتم تخانون  
انفسکم قتال علیکم وعنا عنکم فالان باشرؤهن  
وأتبعوا ما کتب الله لکم وکلوا واشربوا حتی یمین لکم  
الخیط الأبيض من الخیط الأسود من الفجر ثم اتموا  
الصیام الی اللیل ﴾ (البقرة: ۱۸۷)

وه به به لگه ی سوننه ت که دوو  
حه دیسمان لی باس کرد ده رکوت که  
دروسته تاوه کو کاتی بانگی به یانی نان  
و ئاو بوخریت و بوخریته وه . وه له مهش  
زیاتر پیغه مبه ری خوا ﷺ پوخته تی  
داوین که نه گره کاتی بانگیش جامی

ئاوت به دهسته وه بیټ لیټی بخویته وه .  
که واته خوگرتنه وه له خواردن  
وخواردنه وه (الامساك) پینج یا ده  
ده قیقه پیس بانگ هیچ به لگه یه کی  
شه رعی له سه ر نیه و پیویست ناکات  
ودروست نیه خواردن وخواردنه وه  
له خه لکی قه دهغه بکریټ له م کاتی  
ئیمساکه دا ، وه به تایبه تی رږوښه وانی وا  
هه یه نه م کاته به خبه ر هاتوه وه  
ده توانیت له م چهند ده قیقه یه دا شتیټ  
بخوات و بخواته وه نه گره که میش بیټ  
بؤ نه وه ی به ره که تی سحر کردنی  
به رکه ویټ .

۳- پیغه مبه ر (ﷺ) فه رمویه تی (إذا  
أقبل اللیل من هاهنا وغربت الشمس فقد  
أفطر الصائم) (۳۳) . واته نه گره تاریکی  
شه وه له رږوښه لاته وه هات وخور ئاوا  
بوو ، نه وه رږوښه وان رږوښه که ی ته واو  
ده بیټ وده بیټ بیشکیټیټ . که واته  
دروست نیه رږوښه که ت دریټیکه یته وه بؤ  
دوای نه وکاته وه چاوه ریټی ده رکه وتنی  
نه ستیره بیت . به لکو نه وه موخاله فه ی  
سوننه ته و بیدعه یه . وه نه گره هاتوه  
بانگ بیټی ئیواره دره نگتر له کاتی خوی  
بانگی دا، نه وه ده بیټ تو له کاتی خوی  
بیشکیټیټ .

(۳۱) الترمذی: ۷۶/۳. وأبو داود: ۳۰۴/۲ وسنده صحیح .

انظر: صفة صوم النبی/ ۳۸ .

(۳۲) أحمد ۵۱۰/۲. وأبو داود: ۲۳۵. وانظر الصحیحة: ۱۳۹۴ .

(۳۳) متفق علیه .

## پارشئیو ﴿ السحور ﴾ کردن

حوکمہ کہی : واجبہ سحور کردن چونکہ پیغہ مبرہ ر فہرمانی پیکردوین بہ کردنی ﴿ تسحروا فإن فی السحور برکة ﴾ (۳۴) .

واتہ پارشیو بکہن چونکہ پارشیو کردن بہرہ کہتہ ، و ہنابی وازی لی بہینین ئہ گہر قومہ ئاویکیش بیت چونکہ پیغہ مبرہ نہ می کردہ لہ ازہینان لئی . وہک دہردہ کہ ویت لہ حہ دیسی ( السحور أكلة برکة فلا تدعوه، ولو أن یجرع أحدکم جرعة من ماء، فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین ) (۳۵) .

واتہ خواردنی پارشیو خیرو بہرہ کہتہ ، وہ پہ رور دگار پحمہت وبہرہ کہت دہرئیئتہ سہر ئہ وانہی پارشیو دہکن و مہ لائیکہش داوای لی خوش بوون و پہ حمہ تیان بؤدہ کن .

## زہکاتی رۆزوو تہ واو بوون

( سہر فترہ ) ( زکاة الفطر )

۱- ابن عمر دہرہ رموویت : پیغہ مبرہی خوا ﴿ ﴾ زہکاتی فیطری فہر ز کرد کہ بریتہ لہ چوار مشت خورما یان جو . لہ سہر عہد و ئازاد ( الحر ) ، و نیر و می گچکہ و گہورہی موسولمانان (۳۶) .

(۳۴) متفق علیہ .

(۳۵) أحمد من ثلاثة طرق (۳/۱۲ و ۴/۳) و یشد بعضها بعضا .

(۳۶) ( متفق علیہ )

لہ حہ دیسی تردا ہاتوہ کہ گہنم و میوژ و کہ شک و ہر خواردنیکی تری عادیہ تیش بیت دروستہ زہکاتہ کہی لی بدریت (۳۷) .

کہ واتہ بہ گویرہی حہ دیسہ کان پیویستہ ئہ و شتانہ بدرین کہ ناومان ہینان و بہ ہیچ شیوہیہک دروست نہی لہ جیاتیان پارہ بدریت کہ ئہ مہش مہ زہبہی ئیمامی شافیعییہ - پہ حہ مہ تی خوای لی بیت - موافیقی سوننہ تہ . وہ جیگای سہر سورمانہ کہ ہندی لہ مامؤستایانمان لہم لایہ نہ لہ مہ زہب باز دہدن بہ بی بہ لگہ ، وہ دہ لئین پارہ بدہن !! . بہ لام لہ لایہ کی ترہوہ حوکمی لا مہ زہبہی و گو مپایی و ہندی جار مورپتہ دیش دہدن بہ سہر ئہ و گہ نجانہی بہ گویرہی رای زانایانی تر لادہ دن لہ و پایانہی مہ زہب کہ پیچہ وانہی سوننہ تی پیغہ مبرن ﴿ ﴾ . لہ گہل ئہ و ہشدا کہ ئیمام شافیعییش

فہرموویہ تی :

( إذا صح الحدیث فهو مذہبی ) !! .

وہ فہرموویہ تی :

( أجمع المسلمون علی أن من استبان لہ سنة من رسول اللہ لم یحل لہ أن یدعہا لقول أحد )

(۳۷) متفق علیہ . وابن خزیمہ ۴/۸۰ بسند صحیح .

۲- ئەو زەكاته:

**پاك كەرەوہیہ** بۆ پۆژوہوان لە قسەى لەغو و ناشیرن ( طهرة للصائم من اللغو والرفث )<sup>(۳۸)</sup>.

وہ خواردنیکیشە بۆ ھەژاران ( و طعمة للمساكين ) بۆ پۆژى جەژنیان .

وہ ھەر كەسێك ھەژار نەبى دروست نیه بیدریتی .

وہ سوننەتە پێش نوێژى جەژن بدرییت، بەلام دروستە تەنھا پۆژى تا دوو پۆژیش پێش جەژن بدرییت .

## ھەلۆھشینەرەوہکانى رۆژوو

بێگومان ھوكمى ھىچ شتىك تەواو نابییت و سودى لى وەرناگیريیت ، تاوھكو مەرجهكانى تێدانەيەنە جى و ھەلۆھشینەرەوہو رېگەر(مانع)ھكانيشى لى بەدوور نەبى .

بۆ نمونە دەست نوێژ كاتێك تەواو و دروستە نوێژى پى بکەیت و ئەجرو پاداشتى لەسەر وەرەگیريیت كە مەرجهكانى تێدابين و ھەلۆھشینەرەوہكانى نەبن . واتە ئەگەر يەكێ لە مەرجهكان بۆ نمونە شوشتنى قاچ بە گۆيزینگەوہ نەبوو، ئەو دەست نوێژەكەى تەاوو دروست نى يە . و ھەروەھا

(۳۸) أبو داود ۱۶۲۲ و النسائي ۵/۵۰ . وله شاهد صحيح .

ھەلۆھشینەرەوہیەكى دەست نوێژ روو بدات وەك مێز كردن بۆ نمونە ، ئەو دەستان دەست نوێژەكەى دروست نى یەو ھەلۆھشاوہیە و كەلكى نامیڤیت .

بەھمان شیوہش پۆژوو كە مەرچ و پوكنەكانى تێدا نەبن و لە ھەلۆھشینەرەوہ پۆژوو شكینەرەكان دوور نەبیت، ئەو كەلكى نى یەو بە پۆژو گرتن دانانریت لەشەرەدا .

كەوابوو دواى ئەوہى پوكن و مەرجهكانى پۆژوو گرتنمان زانى ، پىویستە ھەلۆھشینەرەوہكانيشى بزانين، واتە بزانين پۆژوو بەچى ھەلۆھشیتەوہو بەتال دەبیتەوہ .

زانایان فەرمویانە: بەبەلگەى قورئان و سوننەت و تیگەیشتن لىیان دەردەكەوێت كە ئەوشتانەى پۆژوویان پى دەشكى ئەمانەن:

۱- **خواردن و خواردنەوہ بە وىست و ئیرادەى خۆت بى عوزریكى شەرى پۆژوو بەتال دەكاتەوہ .** چونكە پەروەردگار لەشەودا خواردنى حەلال كەردووہ بۆ پۆژوہوان تاوھكو بەیانى ، واتە كەبەیانى ھات ئەوہ حەرام دەبیت لەسەرى .



جا ہر کہ سیك دواى بانگى به يانى  
بخوا يا بخواته وه ئه وه سہرہ پای پۆژوو  
شکانى گوناہباريش دەبیٹ. وه پيويسته  
تۆبه بکات له و گوناہه گہ ورہ يه .

به لام ئە گەر له بیری چوو به پۆژوو وه  
شتيکی خوارديا خوارده وه ، وه يا  
به هه له توش بیٹ يا به زۆر پيی  
بخۆنه وه وه هيج دەسه لاتی نه ميینی ، ئە وه  
هيج تاوانیکی له سه رنی یه و پۆژوه که شی  
ناشکيٹ . چونکه پيغه مبه ر ﷺ  
فهرمويه تی :

(إذا نسي أحدكم فأكل وشرب فليتم  
صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه) (۳۹).

وه فهرمويه تی : (إن الله وضع عن أمي  
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (۴۰).

### ۲- خۆ رشاندنه وه :

پيغه مبه ر ﷺ فهرمويه تی :

(من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن  
استقاء فليقض) (۴۱).

واته : هه رکه سی بى ويستی خۆى  
پشايه وه ئە وه پۆژوه که ی به تال

نابيتته وه وه گيپرانه وه شی له سه ر نی یه .  
به لام هه رکه سی به ويستی خۆى  
خۆپرشينيتته وه ئە وه گيپرانه وه ی له سه ره  
۳- جهيزو نيفاس :

ئە گەر ئافره تی پۆژوه وان له  
هه ركاتيکی پۆژدا توشى حاله تی جهيز يا  
نيفاس بيٹ ، ئە وه يه که سه ر پۆژوه که ی  
به تال دە بيته وه وه دروست نی یه به رده وام  
بيٹ له سه رى . وه پيويسته له سه رى ئە وه  
پۆژوانه بگيپرته وه وه که عايشه په زای  
خوای لى بيٹ فهرمويه تی :

(كان يصينا ذلك ، فنؤمر بقضاء  
الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة) (۴۲).

واته : ئيمه ی ئافره تانى سه رده مى  
پيغه مبه ر ﷺ ئە وه حاله ته مان توش  
دە بوو ، فه رمانمان پيى ده که را به  
گيپرانه وه ی پۆژوه کمان ، به لام فه رمانى  
گيپرانه وه ی نويژه کانمان پيى نه ده که را .

### ۲- جيماع کردن .

گومانى تيدانى يه که هه ر پۆژوه وان يک  
به ويستی خۆى له پۆژى په مه زاندا جيماع  
بکات له گه ل خيژانى ، ئە وه پۆژوه که ی

(۳۹) خ (۱۳۵/۴) م (۱۱۵۵).

(۴۰) الحاکم (۱۹۸/۲) عن ابن عباس وسنله صحيح.

(۴۱) أبو داود (۳۱۰/۲) والترمذي (۷۹/۳). صحيح.

(۴۲) خ (۴۲۹/۴) م (۳۳۵).

ئەویش وتى: لە مەدینەدا لە ئیمە  
هەژار تری تیدا نی یە! . پیغەمبەریش ﷺ  
پیکەنی تاوەکو خریکانی دەرکەوتن وە  
فەرموی: دەی وەری گرهو دەرخواردی  
خیزان و مندالەکانی خۆتی بدە .

وہ ہر وہا فہرموی: لەبری ئەو  
پۆژەش پۆژیک بە پۆژووبە وە. (۴۳).

\* بە لأم کە فارەتی نەخستە سەر  
ئافرەتە کە . وە پیاویش کە لە توانیدا  
نەبوو، لە سەری لادەچیت وە ک لە  
حەدیسە کە دا دەرکەوت . والله أعلم .

۵- دەرزی بە ھیزکەر و تیرکەر. (الحقن  
الغذائية): ئەو دەرزیانەى کە لەبری  
خواردن و خواردنە وە دەدرینە نەخۆش.  
ئەوانەش حوکمی خواردن  
و خواردنە وەیان ھەیە .

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ھەلۆ شە... او تە وەو گون... ھیکى زۆر  
گەرەى کردووەو گێرانە وەى ئە و پۆژووەو  
زیادە کە فارەتیشی دەکەوێتە سەر، بەم  
شێوەیەى کە لەو حەدیسەدا ھاتوہ :

(ئەبو ھریرە فەرموی: پیاویک ھاتە  
لای پیغەمبەر ﷺ : وتى ئىھى  
پیغەمبەرى، خوا بە ھیلاک چووم !

فەرموی: چى بە ھیلاکى بردیت ؟  
وتى: چومە لای خیزانم لە پرەمە زاندا !  
فەرموی: دەتوانیت بەندە یەک ئازاد  
بکەیت ؟

وتى: نەخیر .  
فەرموی: دەتوانیت دوو مانگی  
بەدوای یە کدا بە پۆژوو بیت ؟ .

وتى: نەخیر .  
فەرموی: دەتوانیت یەک ژەم  
خواردنی شەست ھەژار بدەیت ؟ .

وتى: نەخیر .

فەرموی: دەى دانیشە، ئەویش لای  
دانیشت. وە زەنبیلیک خورمایان بو  
پیغەمبەر ﷺ ھینا. پیغەمبەریش ﷺ  
دایە دەستى و فەرموی: بیکە بەخیر  
لەبری کە فارەتە کە .